

ترقی اور کامیابی: چند اشارات

محمد بشیر جمعہ

کامیابی متعین اہداف کے حصول کا نام ہے، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی۔ ان کا انسان کی انفرادی، خاندانی یا معاشرتی، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو سکتا ہے۔ انسان جب ان اہداف کو حاصل کر لیتا ہے تو اسے نہ صرف خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے بلکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی کی شاہراہ پر کافی آگے نکل گیا ہے۔

خوش بختی ایک نفسیاتی اطمینان اور خوشی کی کیفیت کا نام ہے جو خدا کے دیے پر قاعات اور اس کی رضا پر راضی رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ خوش بختی کا سر بستہ راز خداے واحد پر ایمان، بندگی کے کلی مفہوم کی صحیح سمجھ اور اس کی عملی طبقیں مضمرا ہے۔ بندگی کا مفہوم ایک کلی مفہوم ہے جس میں ایک مسلمان کا ہر ہر شعبدہ رنگا ہونا چاہیے۔ کامیابی کا تصور اس وقت ایجادی اور صحیح سمت روائ ہو گا جب تک وہ بندگی کے تصور سے پیوستہ رہے گا اور اگر یہ تصور بندگی کے تصور سے مربوط نہیں تو لازماً منفی اور غلط نتیجے تک پہنچ کر رہے گا۔

کامیاب اور ناکام فرد کی خصوصیات

● کامیاب فرد: وہ کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یعنی احساس ذمہ داری اس کی اہم خصوصیت ہوتی ہے۔

□ وہ مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیتا ہے، یعنی باریک بینی سے کام لیتا ہے۔

□ وہ دوسرے کامیاب لوگوں کی عزت کرتا ہے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس میں دوسروں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔

- وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کے لیے لڑنا چاہیے اور کون سے قبل مصالحت، ہیں، یعنی وہ حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے۔
- ذمہ داری کو اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے جتنا فرض منصبی کا تقاضا ہے۔
- شکست کا اتنا خوف نہیں رکھتا جتنا ہارنے والا خوف زدہ ہوتا ہے۔
- وہ جانتا ہے کہ وہ اچھا ہے مگر اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے۔
- اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور حسب موقع معافی بھی مانگ لیتا ہے۔
- عملاء کھاتا ہے کہ وہ اس غلطی کو دور کرنا چاہتا ہے۔
- ناکام فرد سے زیادہ کام کرتا ہے مگر اس کے باوجود اس کے پاس دوسرے کام کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔
- اپنی رفتار کا تعین کرتا ہے اور جائزہ لیتا رہتا ہے۔ منزل سے فاصلے کو دیکھتا ہے اور اسے عبور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
- کہتا ہے: ”اس کام کے لیے کوئی بہتر طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔
- ناکام فرد: وہ وعدے کرتا ہے مگر غیر ذمہ داری کے ساتھ اور عملاء نہیں بھانہ نہیں سکتا۔
 - مسئلے میں الجھار رہتا ہے اور کبھی اسے سمجھنہیں پاتا۔ ہمیشہ مکڑی کے جال میں پھنسا رہتا ہے۔
 - کامیاب لوگوں سے جلتا ہے اور ان کی کامیابیوں میں کیڑے نکالتا ہے۔ شخصیت میں حسد کا مادہ بھرا رہتا ہے۔
- ایسے موقع پر مصالحت کر لیتا ہے جہاں مصالحت نہیں کرنی چاہیے اور ان باتوں میں جھگڑتا ہے جو اس قابل نہیں کہ ان پر جھگڑا کیا جائے۔ عمومی طور پر جلد باز ہوتا ہے۔
- کہتا ہے کہ یہاں صرف میں کام کرتا ہوں اور دوسروں کو نہ تو تسلیم کرتا ہے اور نہ ان کے کاموں کو ہی سراہتا ہے۔
- دل ہی دل میں کامیابی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ کامیابی کا خوف بھی اس کا ایک مرض بن جاتا ہے۔
- وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا برا نہیں جتنے دوسرے لوگ ہیں اور ہمیشہ اس ذاتی مقابلے میں رہتا ہے۔

- وہ اپنی غلطی کو تعلیم نہیں کرتا اور خرابی اور ناکامی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔
- کہتا ہے مجھے افسوس ہے مگر اگلی بار پھر وہی کام کرتا ہے، یعنی اسے اپنی ذات پر قابو نہیں ہوتا۔
- کامیاب فرد کے مقابلے میں کام کرتا ہے مگر پھر بھی وقت کی کمی کا رونا روتا ہے۔
- بے حد یہ جانی کیفیت میں رہتا ہے اور بے حدست اور کاہل ہوتا ہے۔ بات اور کام کو نالتا ہے۔
- کبھی عمدگی سے کام نہیں لیتا۔ بے حد کمزوری یا ظلم کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ شخصیت میں عدم توازن ہوتا ہے۔
- اپنے بولنے کی باری کے لیے مضطرب رہتا ہے اور دوسروں کے بولنے کے دوران بے چین رہتا ہے۔
- وہ اپنے معاملات کے دفاع میں کہتا ہے کہ یہاں ہمیشہ اسی طرح کام ہوتا ہے۔

کامیابی کرنے والے اور سانچے

- رویہ: ثبت انداز فکر اپنائیے۔ □ پسکون رہیے □ پُر امید رہیے □ توکل کیجیے۔
- مضبوط قوت ارادی اور مستقل مزاجی سے کام لیجیے۔
- جا گئے رہیے اور ہوشیار رہیے، لوگوں کی یاتوں میں نہ آئیے اور معاملات میں محتاط رہیا اختیار کیجیے۔
- نصب اعین اور مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے اور اپنے رویے اور مزاج کو نصب اعین کے تقاضوں کے مطابق بنائیے۔
- جہد مسلسل کیجیے اور آگے بڑھنے کے جذبے کو برقرار رکھیے۔
- انگریزی کے لفظ وِن وِن (win, win) یعنی کامیابی کو پیش نظر رکھیے اور دیکھیے کہ سب کو اجتماعی کامیابی کا احساس ہو۔
- ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اور اس کا احساس کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ قائد انسانیت نے جبراً سود کو اپنی جگہ پر دوبارہ رکھنے کے سلسلے میں کس حکمت عملی اور احساسِ عزت نفس کے ساتھ اس معاملے کو چادر پھیلا کر سلبھادیا۔
- باہمی امداد کا روایہ رکھیے۔ جب آپ دوسروں کی امداد کریں گے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاوون کریں گے۔

- جذبائی پن، غصے اور رد عمل کے رویے پر قابو رکھیے۔
- بہت جلدی ناراض مت ہوں۔ اگر ناراض ہونے کی عادت ہے تو جلدی سے خوش بھی ہو جائیے کہ یا چھپی علامت ہے۔
- تصوراتی (آئینڈ لسٹ) زندگی مت گزاریں۔ اس دنیا میں ہی رہ کر آخرت بنانی ہے۔ سب لوگ آپ کو آپ کے مطلوبہ معیار کے مطابق نہیں ملیں گے۔
- نتائج کوہڑہ میں رکھیں۔ درحقیقت انجام آخرت کو پیش نظر رکھیں۔
- صبر و تحمل اور علم سے کام لیجیے۔
- شکر گزار نہیں۔ لوگوں کے احسانات کا اعتراف کیجیے اور رب کی نعمتوں کو محسوس کیجیے اور اس کے شکر گزار نہیں۔ نعمت ایک جنگلی جانور ہے اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو۔
- استقامت اور باقاعدگی کا رو یہ رکھیں۔
- حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی اپنا احتساب کرلو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ قیامت میں پیشی سے پہلے اپنے معاملات کا جائزہ لے کر شاہراہ آخرت کے لیے اپنے بوجھ کو ہلکا کیجیے۔

عادات

- ہر کام شروع کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کرنے کی عادت ڈالیے۔
- روزانہ کرنے کے کام کی فہرست بنائیے۔ یہ فہرست ایک دن پہلے شام کو یارات کو بھی بن سکتی ہے یا علیٰ لصحیح بھی بن سکتی ہے، مگر یہ آپ کی عادت بن جائے اور اس کے بغیر آپ کا کام شروع نہ ہو۔
- زندگی کے ہر معاملے میں اور اپنے یومیہ کاموں کے معاملے میں ترجیحات متعین کرنے کی عادت ڈالیے۔ اہم اور ضروری کاموں کو اولیت دینے کا طریقہ اپنائیے۔
- جو کام شروع کریں اسے ختم بھی کریں۔ کام کرنے اور کام کو سمنٹنے کی عادت بنائیے۔
- کام کو احسن طریقے اور مقررہ وقت میں کرنے کی عادت ڈالیے۔ ڈیلائن (آخری حد) مقرر کرنے اور اس کے مطابق کام کرنے کی عادت اپنانے کی کوشش کریں۔

- وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا اور اسے ریکارڈ کرنے کی اور جائزہ لینے کی عادت بنائیے۔ کام اور معاملات آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جائیں گے۔
- جلدی اٹھنے اور جلدی سونے کی عادت اپنائیے۔
- مطالعہ کرنے اور نوٹس بنانے کی عادت ڈالیے۔
- اپنی بہترین کارکردگی کا وقت (پیک نائم) اور بہترین وقت (پرائیم نائم) کا اندازہ لگائیے، یعنی اس بات کا تعین کیجیے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں آپ بہترین انداز سے اور بہت اچھا اور بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ ان اوقات کو اپنے اہم ضروری اور بہترین کاموں کے لیے استعمال کرنے کی عادت بنائیے۔
- لوگوں کی بات سکون کے ساتھ سنتے کی عادت اپنائیے۔
- فیصلہ کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی عادت ڈالیے۔
- انتظار اور فارغ اوقات کو استعمال کرنے کی عادت بنائیے۔
- معمولات اور معاملات میں چک رکھنے کی عادت ڈالیے اور گھڑی فوبیا کی بیماری میں بچلانے ہوں۔
- مسکرانے کی عادت ڈالیے۔ اس کے لیے صرف ارادے کی ضرورت ہے۔
- خریداری کی مخصوصہ بندی کریں۔ ضرورت کو پیش نظر رکھ کر اور ترتیب بنا کر خریداری کے لیے جائیے۔ غیر ضروری خریداری آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
- ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالیے۔
- ٹی وی، انٹرنیٹ، ای میل کے استعمال میں توازن پیدا کیجیے۔ یہ خوارک کی طرح ضروری نہیں ہیں، البتہ دور حاضر کی ضرورت اور سہولت کا تقاضوں کے مطابق فائدہ اٹھائیے اور دوا اور وٹا من کی طرح استعمال کریں، تاکہ آپ کو حساس ہو کہ زیادہ استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔
- ایک سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے کہ کیا یہ کام یا مصروفیت میرے وقت کا بہترین استعمال ہے؟

صلاحیتیں

- مشاہدہ کرنے اور اس سے نتائج نکالنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔

- دوسروں کے تجربات سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات سے سبق سیکھیں، اس لیے کہ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے۔
- ہر لعزیزی کافن سیکھیے۔
- تعلقات عامہ کافن سیکھیے اور اپنا نیٹ ورک تکمیل دیجیے۔
- گفتگو اور نقطہ نظر پیش کرنے کا سلیقہ سیکھیے اور اس کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کیجیے۔
- فون اور موبائل پر گفتگو کا سلیقہ سیکھیے اور منحصر انداز میں اپنی بات پیش کرنے کافن سیکھیے۔
- ایک وقت میں ایک سے زائد کام کرنے کا سلیقہ سیکھیے یعنی فون پر بات کرتے ہوئے کافن اسی میں اور اس انداز کے دوسراے کام کافن سیکھیے۔
- ٹیم ورک، یعنی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کافن سیکھیے اور اجتماعی کامیابی کی کوشش کیجیے۔
- تفہیض امور، یعنی لوگوں سے کام لینے کافن سیکھیے۔
- فالواؤپ (کام کا تعاقب کرنا) اور مسلسل یادہانی کے ذریعے کام کو کروانے کی کوشش کرنا اور اس سلسلے میں کوئی تامل نہ کرنا۔
- کاموں میں اس انداز سے شریک ہونا کہ وہ کنشتی بیوشن ہو۔ آپ اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔
- افراد کی تربیت اور انہیں آگے بڑھانے کافن سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے ادارے بنتے ہیں اور تسلسل برقرار رہتا ہے۔
- لکھنے کی صلاحیت اور تحریر کے ذریعے اپنے خیالات پیش کرنے کافن سیکھیے۔
- تقریر اور پرینٹیشن کافن مشق اور تربیت کے ذریعے حاصل کیجیے۔
- تیز تر مطالعے کافن آپ کی ترقی کا باعث ہے۔
- منصوبہ بندی کی صلاحیت کامیابی کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے۔
- معاملات پر بات چیت اور مذاکرات کی صلاحیت اور پر سکون رہ کر معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
- مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کی تربیت حاصل کیجیے۔

- کاموں، معاملات، گفتگو اور اخراجات میں کفایت کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ یہ آپ کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوں گی۔
- انتظام کرنے اور انتظامی معاملات کافن سیکھنے کی کوشش کیجیے۔
- مینینگ میں شرکت اور اس میں اپنی بات رکھنے کافن تربیت کے ذریعے حاصل کیجیے۔
- اپنے کاموں میں فوکس رہنے کا اور یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کافن حاصل کیجیے۔
- معدرت کرنے کافن جائیے، یعنی لا یعنی مشاغل اور غیر ضروری کاموں اور نصب اعین اور مقاصد سے ڈور کرنے والے کاموں سے معدرت کر لیجیے۔ تقویٰ کی تعلیم بھی یہی چیز سکھاتی ہے۔
- معاملات میں میانہ روی، کفایت شعاراتی اور اعتدال اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے۔
- ٹکنالوجی، ٹولز اور فنی صلاحیت ڈائری کے استعمال کافن سیکھیے اور دو رجدید کی سہولیات اور وسائل (tools) سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔
- روز کے کرنے کے کام کی فہرست اور 'ٹوڈولسٹ' کا استعمال ایک کارآمد ٹول ہے۔
- کمپیوٹر کا بہتر استعمال سیکھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے ذریعے اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینا سیکھیے۔
- انتہیت کا بہتر استعمال سیکھ کر معلومات اور علوم کے نئے دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے۔
- ای میں کا بہتر استعمال سیکھ کر رابطے کی دنیا میں سرعت حاصل کیجیے اور اس کے ذریعے سے وقت اور اخراجات میں کفایت حاصل کیجیے۔
- سوچل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا سیکھیے۔
- گوگل ظاک اور سکاپ کا بہتر استعمال سیکھ کر روابط قائم رکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔
- دور حاضر کی یہ ایجادات سمندر کی مانند ہیں۔ اس سے ضرورت کے مطابق پانی لیجیے اور اپنے آپ پر قابو رکھیے تاکہ ڈوب نہ جائیں۔

کامیابی کے میدان اور ان کے سانچے

کامیابی کا جو ہر اور اس کا راز بعض اہم بنیادی اصولوں کے جان لینے اور ان کی مسلسل مشق کرنے میں پھر ہے۔ ذیل میں کامیابی کے سانچوں، دائروں اور میدانوں کو ایک چارٹ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے:

کامیابی کے دائرے اور سانچے	کامیابی کے میدان	رویے	عادات	صلاحیتیں	مکملوجی، ٹولز اور فنی صلاحیت
ذاتی					
تعلیمی					
معاشری					
خاندانی					
معاشرتی					

اس مضمون کے مطلع کے بعد آپ اوپر دیے ہوئے خانوں کو اپنی ضرورت کے مطابق پہل سے بھرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اپنی ذات کے متعلق فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اس مضمون میں جو اشارات دیے گئے ہیں ان میں ہر ایک کے ساتھ ایک چیک بکس بنا ہوا ہے۔ اسے آپ اپنی ضرورت کے مطابق پہل سے نشان لگائیں گے تو آپ کو اپنی بہتری کی منصوبہ بندی آسان ہو جائے گی۔

چند بنیادی عوامل

- نصب العین، مقاصد اور منصوبہ بندی: نصب العین کا تعین اور زندگی کو اس نصب العین کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔
- نصب العین کا تعین اور اس کے حصول کے لیے مقاصد زندگی کا تقرر کیجیے اور اس پر وقت صرف کیجیے۔
- ان مقاصد کے حصول کے لیے وسائل کا تعین کیجیے اور انتظام کرنے کی منصوبہ بندی سیکھیے۔
- ان مقاصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کے ساتھ اوقات اور مدت کی تعین کے ساتھ

شیدہ ولنگ سمجھیے۔

- ان پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار وضع سمجھیے اور اس کا با قاعدگی سے جائزہ لیتے رہیں۔
- عرفان ذات: اپنے آپ کو پہچانا سمجھیے۔
- اپنے ثابت اور منفی حقائق کا جائزہ لیتے رہیں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہتری کی کوشش کرتے رہیں۔
- اپنی ذات کی عکاس نوٹ بک بنانا سیکھیں اور اسے با قاعدگی سے پڑھتے رہیں۔
- توازن زندگی: تعلیم اور گھر کی تنظیم پر بھرپور توجہ دیں۔ جس جگہ پر اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں اسے مکان کے بجائے گھر بنانے اور سکون کی جگہ بنانے کی کوشش سمجھیے۔
- گھر اور معاش کی تنظیم سمجھیے اور اس میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش سمجھیے۔
- خاندان کی تنظیم کی طرف توجہ دیجیے کہ اس کے حوالے سے جواب دہی ہوئی ہے۔
- اپنی ذات پر سرمایہ کاری سمجھیے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش سمجھیے۔
- ترتیب، تسلیم، توازن اور ترکیب کا خیال رکھیے۔
- اخلاقی اقدار: ان بنیادی اخلاقی اقدار پر بھرپور توجہ دیجیے:
- سچائی بنیادی صفت ہے اور ہر منہب کا بنیادی تقاضا ہے۔
- امانت کردار کا اہم ستون ہے۔
- عہد کی پابندی آپ کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔
- انصاف لوگوں میں آپ کو تسلیم کرتا ہے۔

تربیت عالمی ترجمان القرآن

انٹر نیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے

www.tarjumanulquran.org

پھر ہیز طالع سے بہتر ہے لیکن پرہیز صحیح اور مستند معلومات کے بغیر ممکن نہیں
آنکھوں کی پیاریوں اور جدید ترین طریقہ ہائے طالع سے متعلق معلومات کے لیے
مندرجہ ذیل ویب سائٹ کا مطالعہ کریں

www.drasifkhokhar.com

آنکھوں کی پیاریوں سے متعلق اردو کی واردہ بہتر سائٹ

- ① کیا آپ اپنی بیماری کی نویجت کو سمجھنا چاہتے ہیں؟
- ② شوگر آنکھوں کو کیا انسان پہلتی ہے؟ اس سے پہلا کام کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
- ③ کیا میک اتر سکتی ہے؟
- ④ لیز سے میک اٹارنے کا آپ یعنی کیسے کیا جاتا ہے؟
- ⑤ کیا آپ کو لیزر گلوانے کا مشورہ دیا گیا ہے اور آپ کو سمجھنی آری کے گلوائیں یا نہ گلوائیں؟

ڈاکٹر اصفہن فہرست آئی سرجون

انکھیاں (نہایت) ایکی ایکس (آئی) ایکس (طبیعی)

ہم ایک جیسا خود مشریع عظیم ہسپتال

کوہاٹ احمدیہ کی کمپنی میک اٹارنے کے خدمتیں اپنے

Cell: 0333-4102266

Email: drasifkhokhar@hotmail.com

042-37495073 Cakes & Bakes میں بیوارڈ، طاس اقبال ٹاؤن، لاہور فون

گھر بیٹھے علاج

اب آپ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی ڈاکٹر سید نبیل اختر اور دیگر ماہرین افسیات سے فون اور کمپیوٹر پر علاج کرو سکتے ہیں !!

اپنی فیکس برادرست جمع کروائیں:

• اوفی: اکاؤنٹ نمبر: 0344-2645552 • ایڈی پیس: اکاؤنٹ نمبر: 2-2

• بینک اکاؤنٹ نمبر: Bank Account: 661-3-M.C.B (Hadi Market Branch)

• فون کریں: 111-760-760



اسی طریقے سے ادویات
بھی آپ کے گھر پہنچائی جاسکتی ہیں۔
برائجیں:

مرکز: B-1/14، بلاک آباد، 3، کراچی 021-36708092، 021-36616837 جیسا آباد: A-81، بلاک "A" الیف آباد، 4، جیسا آباد 021-3812534

رہنماء: رضا طاڑہ ایک اے جتاج روڈ، کراچی 021-32720414، 021-32721504 عرب غاغن: 4-F، 13/12، قائم آباد، کراچی 021-36684503

رومانہ روڈ: G-18، بلاک "G" تھام آباد کراچی 021-36646648، 021-36644841 لاطی: الیسٹریکٹ نہاد، پارلا منڈی